

April 29, 2024

The Executive Director
Public Offering & Regulated Persons Department
Securities Market Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue
Islamabad

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Karachi

The Chief Executive Officer Unity Foods Limited Unity Tower, 8C, Block 6, PECHS, Shahrah e Faisal, Karachi

Subject:

Publication of Corrigendum to the Public Announcement of Public Offer in relation to the acquisition of up to 277,070,908 shares (constituting 23.20% of the shareholding interest) and joint control of Unity Foods Limited

Dear Sirs,

This is with reference to the Corrigendum to the Public Announcement of Public Offer dated April 25, 2024 to acquire 277,070,908 ordinary shares of Unity Foods Limited (the "Target Company") made by Arif Habib Limited ("Manager to the Offer") on behalf of Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd, Unity Wilmar Agro (Private) Limited, Mr. Muhammad Farrukh and Ms. Fehmida Amin (the "Acquirers"). In this regard, we would like to inform you that the Corrigendum to the Public Announcement of Public Offer has been published in Business Recorder and Nawa-i-Waqt on April 27, 2024 in accordance with Regulation 6(5) of the Listed Companies (Substantial Acquisition of Voting Shares and Takeovers) Regulations, 2017.

Copy of the newspaper publications where the Corrigendum to the Public Announcement of Public Offer has been published is enclosed herewith.

You may contact the undersigned for any additional information or clarification.

For and on behalf of Arif Habib Limited (Manager to the Offer)

Yours faithfully,

Saif ul Haq

Analyst, Investment Banking

Rafia Jawaid

AVP, Investment Banking

NATIONAL NEWS

Protection of databases, businesses

Cos asked to maintain comprehensive cybersecurity solution

will be read as:

Talking about the issues EDR (Endpoint Detection ISLAMABAD: A global being face by Pakistani com- and Response) alongside the line of cybersecurity prodcyber security company has panies, Kaspersky experts visibility and powerful tools ucts that includes robust endstrongly advised Pakistani informed on Friday that it of companies to maintain a has introduced its new flag- Detection and Response). comprehensive cybersecuri- ship product line "Kaspersky Customers can now choose beyond the classic EPP ty solution for effective pro- Next" combining robust one of three product tiers tai- (Endpoint transparency and speed of

PAKISTAN RAILWAYS

OFFICE OF THE PROJECT DIRECTOR IMMEDIATE

TRACK SAFETY WORKS (ROH-KPR)
INVITATION FOR BIDS

ADDENDUM

Reference to subject Tender Notice (Bid identification) No.398-SIG/PSDP/DVR/2023-24 uploaded on EPADS (Tender No.F-240453177) title

Supply, Installation, Testing and Commissioning of Dynamic Voltage Regulator With Active Power Filter And Power Factor Controlling Systen (Impedance Generator) of capacity 40 KVA (3 Nos.), 30 KVA (15 Nos.) along

with spare parts on Tando Adam-Rohri-Khanpur sections, Sukkur Division The Bid Security Clause, BDS No.18, ITB No.18.1 in the tender documen

will be read as:
"Bid must be accompanied by bid security in the form of Bank Guarantee, CDR/Banker Cheque/pay order or as Insurance Guarantee from an Insurance Company having at least AA rating from PACRA/JCR made in favour of FA & CAO, Pakistan Railway, amounting Rs.3.00 million".

Performance Security Clause, GCC Clause No. 10.1, SCC No.1 in tender document will be read as:

"The Parformance Security (or guarantee) shall be 1006 of the value of each

"The Performance Security (or quarantee) shall be 10% of the value of each

Plorder it will be as bank guarantee or as Insurance guarantee from a Insurance company having at least AA rating from PACRA/JCR made in

favour of FA&CAO PR for the currency of agreement and submitted to PD/ ITSW Rohri -Khanpur office. The performance security will be returned after

(ALI NAWAB KHAN)

Deputy Chief Signal & Telecom Engineer/North, For PD/Immediate Track Safety (ROH-KPR) Pakistan Railways, Headquarters Office, Empress Road, Lahore, Pakistan

Habib Sugar Mills Limited

Public Announcement of closure of

Purchase Period for Buy-Back of Shares

Habib Sugar Mills Limited (the Company)

in accordance with Regulation 10(g) of the

Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 (the Regulations)]

This is to announce the closure of the

Purchase Period in relation to the Buy-Back of Shares by the Company, as approved by the members of Habib Sugar

Mills Limited (the "Company") in the Annual

General Meeting held on January 24, 2024,

the public announcement of which was

duly made in this newspaper on January

26, 2024. During the Purchase Period. the

Company has completed purchase/Buy-

Back of an aggregate of 15,000,000

(fifteen million) ordinary shares of the

Company (Purchased Shares), representing

10% of the issued and paid-up share

capital of the Company on April 25, 2024.

The Purchased Shares shall be cancelled

and Members' Approval. Accordingly, in

accordance with Regulation 7(2) of

the Regulations, the Purchase Period

stands closed/completed on Thursday,

Imran Amin Virani

Company Secretary

accordance with applicable laws

Installation, Testing and Commissioning".

Other terms & conditions of tender will remain unchanged.

XDR

they were several years ago. lent, evasive, and sophisticat-41% of respondents believe ed attacks, providing busithat the evolving and rapidly nesses with total visibility changing threat landscape is control, rapid response and the key reason behind diffiproactive threat hunting. culty in security operation to keep up with security ana-

sive cybersecurity solution and advanced monitoring. they can trust and rely on for

Kaspersky Next is a new (Extended point protection powered by AI capabilities, and goes tection to their databases and endpoint protection with the lored to their business Platform), bringing together requirements, the complexi- EDR and XDR for corporate y of their IT infrastructure, customers of any size and and their available resources. industry. As the most According to a report from advanced and effective a survey, 52% of companies cybersecurity solutions, EDR state security operations are and XDR help companies to more difficult today than withstand the more preva-

> Kaspersky Next is deploywhile 20% sighted lack of ment-agnostic and allows for cybersecurity skills or staff both cloud and on-premise installations. Companies can lytics and operations as key manage it either through a streamlined console to per-Amid the constantly form core cybersecurity evolving cyber threat land- tasks quickly, or via an scape, it is vital for compa- enterprise-grade console nies to have a comprehen- with more granular controls

> The new product line effective protection. As a helps companies build cruleading innovative and tech- cial cybersecurity functions company, to provide robust protection Kaspersky is continuously against ransomware, maldeveloping its solutions to ware and data breaches, and address all the cybersecurity avoid infrastructure penetrarequirements of businesses, tion through Business Email helping them build up reli- Compromise, supply chain able cybersecurity frame- attacks, exploits and other vulnerabilities



CORRIGENDUM /ADDENDUM NO. 1 TENDER # FN/FB-411

TENDER FOR SECURITY DESIGN SOFTWARE

REFERENCE SUBJECT TENDER ADVERTISEMENT PUBLISHED IN DAILY EXPRESS AND BUSINESS RECORDER ON 23.03.2024.

THE TENDER OPENING DATE OF THE SUBJECT TENDER HAS BEEN EXTENDED UPTO 14.05.2024. OTHER TERMS & CONDITIONS OF THE TENDER DOCUMENTS SHALL REMAIN THE SAME.

DY. GENERAL MANAGER **PURCHASE** PID (K) No. 3015/23

TENDER NOTICE

1. 1 Engineers Battalion, Hyderabad Cantonment invites sealed bids for purchase of construction material for Upgrd for trg facilities at KFFR, Sniper Rg and Hard Standing out of Special Annual Training Grant (Spec ATG) FY-2023/2024. Bidder must be registered with income Tax and Sales Tax Department/ FBR.

2. Bidding documents, detailed terms and conditions, procurement, procedure for submission of bids, bid security, bid validity, opening evaluation criteria, clarification/rejection of bids, performance guarantee etc. are available for the terested bidders in this unit.

3. The prepared bids in accordance of the instructions in bidding documents, must reach this unit by 13 May 2024 at 1100 hrs and will be opened at 1130 hrs on the same date. The advertisement is also available on PPRA website.

> 1 Engineer Battalion **Hyderabad Cantonment** 022-2781811

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER HIGHWAYS DIVISION KASHMORE @ KANDHKHOT

Karachi:

April 25, 2024.

April 27, 2024

No. XEN:(HWs)TC/145/2024 Kash:@ K.kot Dated: 23/04/2024

INVITING

Ph No. 0722/573773

Sealed Tenders are invited as per SPPRA Rule 2010 (Amended 2019) on composite schedule Rates (CSR-2012) from the contractors/Firms/Companies on Standard form of Bidding Document for procurement of the following works under Annual Development Programme 2023-24

S. No.	Name of scheme	Estimated Cost	Completion Period	Cost of Tender	Earnest Money
1	Construction Of Road From Saleh Khan & Molvi Abdullah Mazari Via Lundi Band Upto Chandol Road (Portion-i) Taluka Kashmore	40.000	12 Months	3000/=	05%
2	Construction Of Road From Saleh Khan & Molvi Abdullah Mazari Via Lundi Band Upto Chandol Road (Portion-II) Taluka Kashmore	40.000	12 Months	3000/=	05%
3	Construction Of Road From Saleh Khan & Molvi Abdullah Mazari Via Lundi Band Upto Chandol Road (Portion-II) Taluka Kashmore	40.000	12 Months	3000/=	05%
4	Reconditioning of road from Indus Highway remaining portion along, Adio wah.	40.000	12 Months	3000/=	05%
5	Reconstruction of Paver road from Farooqui Pump city bypass (Portion-I)	40.000	12 Months	3000/=	05%
6	Reconstruction of road from Mashooque Khan Malik & Din Muhammad Malik.	20.000	12 Months	3000/=	05%
7	Reconstruction of road from Tangwani Thull road to Kundo Bakhrani & Janib Lashari villages via Muqdum Piyaro Bajkani & Daulat Gajani to connect 36 Mile (Portion-I)	30.000	12 Months	3000/=	05%
2.	Eligibility: Valid registration with Income Tax Department (FBR), Sindh Revenue Board (SRB) and Pakistan Er	ngineering Council (F	PEC) in relevant	category (CE

- for the current financial year 2023-24
- Method of Procurement: Single Stage Two Envelopes Procedure, Open National Competitive Bidding Bidding /Tender Documents (Issuance, Submission & Opening)

S.#	Particulars	1st Attempt	In case of un-responded tender
i.	Last date of receipt of application for issuance of Blank Tender from Publication of NIT upto 05:00 PM on payment of tender fee (Non-Refundable)	13-05-2024	29-05-2024
ii.	Date of receipt and opening of tenders. (Receipt of tender upto 10:00 AM & Opening at 11:00AM	14-05-2024	30-05-2024
iii.	Place of issuance, submission, inquiries and opening will be at Office of the Executive Engineer Highways	Division Kashmore @ Kar	ndhkot. District Kashmore @

(TERMS & CONDITIONS)

INF-KRY No.

Under following conditions bid will be rejected: Bids not accompanied by bid security of requited amount and firms Bids received after specified date and time.

Kandhkot Near Deputy Commissioner Office Kandhkot.

Black listed firms / involved in any litigation Incomplete bidding document (having just Bill of Quantities)

Unsigned and unstamped bidding documents

Procuring Agency reserved the rights to reject any or all the bids as per SPPRA Rules 2010 (Amended upto date)

Responsive Bidder is required to submit following documents with bid:

(a) Contract documents and other terms & conditions can be seen or downloaded from the official website of SPPRA.i.e https://ppms.pprasindh.gov.pk/PPMS/. The tenders fee above

mentioned amount and 5% Bid Security of estimated cost / bid cost in the shape of Call Deposit in favour of undersigned and No Pay Order valid.

(b) Certificate (i) NTN Certificate (With active status), (ii) SRB Certificate (With active status) and (iii) Valid PEC Certificate (upto June 2023 in relevant category & matching).

specialized Code along with copy of CNIC of owner / Proprietor.

List of complete work (03 Nos.) for last three years from (2021 to 2023) of Highways works with documentary evidence along-with satisfactory completion certificate of work and

copies of letter of award of works. List of On-Going (03 Nos.) of Highways Works with documentary evidence with copies of award of works

Detail of machinery and equipment available for execution of work with documentary evidence Qualification and experience of technical personnel with names and key site management staff

Bank Statement of Last 03 Years, conforming Cash Availability 20% of the estimate cost of work and financial capability must have turn over of 100% of the estimate cost of work

Current affidavit that the Firm is not indulged in litigation and has not abandoned any work.

Affidavit that the given information, documents and data is absolutely true and correct. Audit Report of Companies enclosed herewith Last 03 Years.

In case undesirable circumvents on submission / opening date and time or if Government declares Holidays the tender shall besubmitted / opened on the next working day at the

Bid shall comprise Single Package containing Two separate envelopes. Each envelope contain separately the Financial Proposal and Technical Proposal. Envelope shall be marked Technical Proposal and Financial Proposal in bold and legible letters to avoid confusion.

Technical Proposal opened, shall be evaluated for technical qualification of the firms. Financial bids / proposals of the technically qualified firms shall be opened on the date and time that will be communicated in writing to all the qualified contractor / firms. Financial bids / proposals of technical disqualified shall be returned to the respective bidders un-opened

EXECUTIVE ENGINEER

Corrigendum to the Public Announcement of Public Offer dated April 17, 2024 in relation to the acquisition of up to 277,070,908 shares (constituting 23.20% of the shareholding interest) and joint control of **Unity Foods Limited**

This Corrigendum covers certain amendments to the Public Announcement of Public Offer dated April 17, 2024 ("PAO" that was issued on April 17, 2024 through Arif Habib Limited (the "Manager to the Offer") on behalf of (i) Wilman Pakistan Holdings Pte. Ltd., (ii) Unity Wilmar Agro (Private) Limited, (iii) Mr. Muhammad Farrukh, and (iv) Ms. Fehmida Amin (collectively, the "Acquirers"), and was published on April 19, 2024 in the Business Recorder and Nawa-i-Waqi newspapers, with respect to the acquisition of up to 277,070,908 shares (constituting 23.20% of the shareholding interest and joint control of Unity Foods Limited (the "Target Company"). The amendments in this Corrigendum relate to inter alia the offer price, which shall be PKR 27.34 per share, in conformity with the pricing formula provided under the Listed Companies (Substantial Acquisition of Voting Shares and Takeovers) Regulations, 2017. Accordingly, the below mentioned sections of the PAO stand amended and are reproduced in this Corrigendum. All other details in the PAO, other than those stated herein below, remain unchanged.

PART A

Brief description of the acquisition: -

Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.

Acquisition through	Number of shares	Percentage	Price per Share
Agreement(s)	N/A	N/A	N/A
Public Offer	218,886,017 shares	18.33%	PKR 27.34
(ii) Unity Wilmar Agro (Pr	ivate) Limited	*	

Acquisition through	Number of shares	Percentage	Price per Share
Agreement(s)	N/A	N/A	N/A
Public Offer	2,770,709 shares	0.23%	PKR 27.34

(iii) Mr. Muhammad Farrukh

Acquisition through	Number of shares	Percentage	Price per Share
Agreement(s)	N/A	N/A	N/A
Public Offer	52,643,473 shares	4.41%	PKR 27.34

(iv) Ms. Fehmida Amin

Acquisition through

Agreement(s)

Public Offer

Acquisition through	Number of snares	Percentage	Price per Snare
Agreement(s)	N/A	N/A	N/A
Public Offer	2,770,709 shares	0.23%	PKR 27.34
Total:		*	

Number of shares

277,070,908 shares 23.20%

PART B

THE ACQUIRERS

Number of shares issued since the end of the last financial year of the Acquirers (in case of

Name	Number of shares issued since the end of the last financial year of the Acquirers
Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd.	NIL
Unity Wilmar Agro (Private) Limited	NIL

Percentage

N/A

Price per Share

PKR 27.34

N/A

DETAILS OF THE PUBLIC OFFER

Number of shares already held by the Acquirers along with the date(s) of acquisition.

Also state whether it was purchased through open market or acquired through a negotiated

Name	No of shares held	% of shares hel
Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. ("WPH")	259,535,950	21.74%*
Unity Wilmar Agro (Private) Limited ("UWA")	166,153,085	13.92%*
Mr. Muhammad Farrukh ("Farrukh")	120,855,029	10.12%*
Ms. Fehmida Amin ("Fehmida")	93,364,120	7.82%*
Total	639,908,184	53.59%

interest of 7.23% (through its 52% stake in UWA) in the Target Company. * Farrukh has a direct shareholding interest of 10.12% and an indirect shareholding interest of 1.67% (through his indirect stake in UWA) in the Target Company. * Fehmida has a direct shareholding interest of 7.82% and an indirect shareholding

Name	Date of acquisition	Purchase through
Wilmar Pakistan	Please refer to Appendix	Please refer to Appendix
Holdings Pte. Ltd.	A of the PAO	A of the PAO
Unity Wilmar Agro	Please refer to Appendix	Please refer to Appendix
(Private) Limited	B of the PAO	B of the PAO

have purchased shares of the Target Company, from time to time, through the open market, the negotiated deal market and through subscription of right shares.

OFFER PRICE AND FINANCIAL ARRANGEMENTS 3.1 Justification for the offer price

Total amount of consideration to be paid for the shares to be tendered during the public offer (assuming full acceptances)

277,070,908 sharesxPKR 27.34 per share = PKR 7,575,118,625/- (Pak Rupees Seven Billion, Five Hundred and Seventy-Five Million, One Hundred and Eighteen Thousand, Six Hundred and Twenty-Five Only)

Justification for the offer price for the shares of the Target Company, in the light of criteria contained in regulation 13 of these regulations

Since the shares of the Target Company are frequently traded as per the Regulations, the price to be offered to the public should be the highest price amongst the following: a) The highest price paid by the Acquirers for acquiring the voting shares of the Tar

Company during the 180 days preceding the date of Public Announcement of Public Offer: PKR 27.34 per share b) The weighted average share price of the Target Company on the securities exchange

during the 180 days preceding the date of Public Announcement of Public Offer: PKR 24.89 per share c) The weighted average share price of the Target Company on the securities exchange during 28 trading days preceding the date of public announcement of intention and

only those days shall be taken into account on which the shares of the Target Company have been traded: PKR 23.09 per share Based on the above, the Public Offer is being made at PKR 27.34 per share, the highest

3.2. Financial Arrangements

Disclosure about the security arrangements made pursuance of Section 123 of the Act, 2015.

The Acquirers have arranged bank guarantees for the cumulative amount of PKR 7,575,118,625/- (Pak Rupees Seven Billion, Five Hundred and Seventy-Five Million, One Hundred and Eighteen Thousand, Six Hundred and Twenty-Five Only) issued by Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited in favour of the Manager to the Offer.

PROCEDURE FOR ACCEPTANCE AND SETTLEMENT

procedure Detailed acceptance of offer of the Target shareholder Company

1. In order to accept the Public Offer, the shareholders are required to send the letter of acceptance (attached to the offer letter), duly completed and signed, along with the requisite documents (as set out below) to the Manager to the Offer, at its registered address i.e., 2nd Floor, Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan on or before 5:00 pm on June 20, 2024. Please ensure that with the letter of acceptance, all the required information is provided, including the number of shares to be tendered.

2. In the event that the letter of acceptance and the requisite documents are delivered within the stipulated time, the Manager to the Offer will issue confirmation of the receipt of documents.

3. Receipt by the Manager to the Offer by the closing date of the duly completed and signed letter of acceptance along with the required documents will constitute acceptance of the Public Offer.

Completed acceptance forms, once submitted, cannot be revoked by shareholders selling in the Public Offer. Copies of the acceptance form shall also be available at the offices of Arif Habib

Limited (address provided below) or on the website: https://www.arifhabibltd.com/. 6. The Public Offer will remain open for acceptance for seven days starting 0900 hours PST on June 14, 2024 to 1700 hours on June 20, 2024 (the "Closing Date"). Acceptances received after working hours on the Closing Date shall not be entertained

and the Public Offer period shall not be extended. The letter of acceptance must be accompanied by the following documents: For Individual Applicants: An attested copy of Computerized National Identity Card,

original shares certificates and duly executed transfer deeds along with the duly completed and signed authorization to split share(s) certificates letter for (physical shares only), and copy of CDC transferred slip submitted with CDC investor account services (for CDC

For Corporate Applicants: A certified copy of the Memorandum and Articles of Association, a certified copy of certificate of incorporation (and for public companies, certificate of commencement of business), certified copies of Computerized National Identity Card of signatories, a certified copy of the board resolution authorizing persons to sell the shares with specimen signatures of such authorized persons, original share certificates and duly executed transfer deeds along with the duly completed and signed authorization to split share certificate(s) letter (for physical shares only), copy of CDC

transfer slips submitted with CDC investor account services (for CDC shares only). Any letter of acceptance furnished by the shareholder(s) without the requisite documents may be rejected by the Manager to the Offer as being incomplete and invalid. The acceptance by the Acquirers of the shares tendered by the selling shareholders and

payment of the offer price is subject to the following conditions:

The Commission or any other competent authority having no objections to any of the provisions of the Public Offer;

The payment for the shares does not contravene any section of the Foreign Exchange Regulations Act, 1947 and the Foreign Exchange Manual of the State Bank of Pakistan; The letter of acceptance being duly completed and signed along with the required

documents and submitted to the Manager to the Offer on or before the Closing Date;

The tendered shares being verified by the Target Company; and The Acquirers not withdrawing the Public Offer in accordance with the provisions of

the Act.

Upon receipt of duly filled acceptance form along with the requisite documents, the Manager to the Offer will send written acceptances of the tender along with bank drafts / pay orders in favour of the shareholder as payment for such shares to the selling shareholder within 10 (ten) days of the closing date of the acceptance period. No interest, mark-up, surcharge or other increment will be payable for any cause or reason on the aggregate price for the shares purchased by the Acquirers from any selling shareholder for any cause or

HIGHWAYS DIVISION KASHMORE @ KANDHKHOT

پڙهندي سنڌ ته..... وڌندي سنڌ <u>بڑ ه</u>گا *سنده آو۔۔۔۔ بڑ هگا سنده*

یونی فو ڈلمیٹڈ کے 277,070,908 شیئر ز (جوشیئر ہولڈنگ انٹریسٹ کا 23.20% بنتاہے) اور جوائنٹ کنٹرول حاصل کرنے کے حوالے سے مورخہ 17 اپریل، 2024 کے پیلک آفر کے اعلان عام میں ترمیم

المرايكرو (يرائيويث) كمييند، (iii) جناب محمر فرخ، اور (iv) محتر مه فهميده امين (مشتر كه طورير" حصول كنندگان كي جانب سے يونني فوذ كمييند (دی " نارگ كمپنی") كے 277,070,908 شيئز ز (جوشيئر بولندنگ اعريت کا 🔾 23.20 نبر آبے) اور جوائٹ کنٹرول حاصل کرنے کے حوالے ہے جاری کیا گیا تھا اور 19 اپریل ، 2024 کو برنس ایکا در اور نوائے وقت اخبارات میں شائع ہوا تھا۔ اس Corrigendum میں ترامیم کا تعلق دوسری باتوں کے ملاوہ آخر پرائس سے ہے، جولسٹیکٹیٹر (سیسٹیشل ایکوئریشن آف وونگ شیئر زایٹڈ ٹیک اوورز)ر گیالیشنز ،2017 کی مطابقت ے27.34 پاکستانی روپے فی شیئر ہوگی۔لہذا، PAO کے مندرجہ ذیل سیکشنز میں ترمیم کر دی گئی ہے اور ک Corrigendum شن دوباره شامل میں - PAO میں دوسری تمام تفصیلات، ماسوائے ان کے جن کاذیل میں ذکر کیا گیا ہے، جول کی تو را د میں گ

		المسالف	
طلوبه حسول کی مختصر صراحت i) ولمریا کستان ۶ حسای نیده			
i) ولمريا كتتان م	ولڈنگز یی تی ای کمیشٹہ		
حصول بذريعيه	בייל לי טיבלונ	فصد	قیت فی شیئر
معاہدہ (معاہدات)	كوتى شپين	كونىشيى	كونى شين
پېک آ فر	218,886,017 شيترز	18.33%	27.34 پاکستانی روپ
ii) يوثيثي ولمراثير	و(پرائيويث)لمينز	31Val	
حصول بذريعيه	شيئرزى تعداد	يمد	تيت في شيئر
معابده (معابدات)	كونىشيىن	كونىشىيى	كونى شير
پیک آ فر	2,770,709	0.23%	27.34 يا كتاني روي
iii) جناب گوفرر	į		
حصول بذرابعيه	شيئرز كى تعداد	يصد	قيت في شير
معابده (معابدات)	كوتينيين	كوفئ شيين	كوفي شير
پیک آ فر	52,643,473 شيترز	4.41%	27.34 يا کـتاني روپے
iv) محترمه فهميده ا	مين .	722	
حصول بذريعيه	شيئرز كي تعداد	يمد	تيت في شير
معابده (معابدات)	کو تی شییں	كوتىشيى	کو گھٹیں
پیک آ فر	2,770,709شيترز	0.23%	27.34 پاکستانی روپے
ل:		1800	
حصول بذريعيه	شيئرز كى تعداد	فيصد	قيت في شير
معابده (معابدات)	كوتئ شيين	كو تى شپير	كونيس
يبك_آ فر	277,070,908 شيئرز	23.20%	27.34 يا کتاني روپ

رگٹ تمپنی میں ووننگ کے حقوق کے کسی بھی موجود ہ انعقاد کی تفصیلات

ملكيت مين شيئرز كي تعداد

259,535,950

	1. حصول كشترگان
تفصيلات مندرجه ذيل بين:	حصول کنندگان کے گزشتہ مالی سال کے افتتام کے بعد جاری شدہشیز زکی تعداد (عمینی کی صورت میں)
4 F	شد بشيئر ز کي تعداو (مپني کي صورت مين)

راد	حصول کنندگان کے گزشتہ مالی سال کے افتتام کے بعد جاری شدہ شیئر زکی تعدا
ولمريا كستان ہولڈنگز بي ٿي اي لميشڈ	NIL
یونٹی ولمرا نگرو(برائیویٹ)لمیٹٹر	NIL

ملكيت مين شيئر ز كا%

ت شيئر مولدُنگ انثريت اور %7.23 بالواسطه

بئر ہولڈنگ انٹریٹ اور %1.67 بالواسط شیئر

بولڈنگ انٹریسٹ اور %2.79 کا بالواسط شیئر

والى قيمت مندرجه ذيل قيمتول مين

کمپنی کے دونٹک شیئر ز حاصل کرنے کے

. کی ایک

ل کیا ہوا

	2. کیک افری تعلیدات
ٹارگٹ تمپنی میں ووٹنگ	حصول کنندگان کی ملکیت میں پہلے ہے موجود شیئرز کی تعداد مع حصول کی
الم	تاریخ(تاریخیں)
	یہ بھی بتا کیں کہ بیاوین ماکیٹ کے ذریعے خریدے گئے تنے یابات چیت
ولمريا كتتان مولدُنگز	سے طے پانے والے سودے کے ذریعے حاصل کیے گئے۔
لى ئى اى لىيند ("PH	

21.7470	209,000,900	لِي فَي الله الله الله الله الله الله الله الل
13.92%	166,153,085	یونق ولمرا گیرو (پرائیویث) لمیشتر ("UWA")
10.12%	120,855,029	جن <i>اب گذرخ</i> ("Farrukh")
7.82%*	93,364,120	محتر مدفهميده امين ("Fehmida")
53.59%	639,908,184	کل
اسٹیک کے ذریعے)%21.74 کے ذریعے)%10.12 براہ		شیئر ہولڈنگ انٹریسٹ ہے۔
ے کے ذریعے %7.82 براہ راس خرید بذریعہ	UW میں اپنے بالواسطداستگیا حصول کی تاریخ	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
خريدبذرييه	W 889-W =	* فبمیده نارگٹ کمپنی میں(A) ہولڈنگ انٹریٹ رکھتی ہیں۔

	آ فریرانس اور مالی انتظامات	
	آ فريرانس كاجواز	
شیئرز پےآرڈر/ بینک ڈرافٹ کے ذریعے نقدادا لیکی کے عوض حاصل کیے جائیں گے	بك آ فرك ذر يع حاصل كيه جانے واليشيئرزكى كنسدريش كاطريقه	
277,070,908 shares x PKR 27.34 per share =	نسڈریشن کی کل مالیت جوان شیئرز کے لیے اواکی جائے گی جو پیک آفر	
-/PKR 7,575,118,625 پاکستانی روپے سات ارب، پانچی سو پھیزن، ایک سواٹھارہ ہزار، چیسو پھیس	الدوران ٹینڈر کیے جائیں عے (مکمل قبولیت بچھتے ہوئے)	
چونکدر یگولیشنز کےمطابق ٹارگٹ کمپن می ہے شیئرز کی مسلسل خرید وفروخت ہوتی ہے اس لیے پیلک کوآ فر کی جانے	ن ر كوليشنو كريكوليش 13 ميس شامل طريقه وكاركي روشي مين ناركث	
سب سے زیادہ ہونی جا بینے ۔		
a پلیک آفر کے اعلان عام کی تاریخ ہے 180 دن پہلے حصول کنندگان کی طرف سے ٹارگٹ	**************************************	
لداداك بادرة بن قرية ١٠٠ ١٦٠ اكتابي بريشين		

(پرائیویٹ) کمیٹڈ

مالى انتظامات ایکٹ،2015 کے سیکٹ ين ۋسكلوۋر

قبوليت اور تصفيه

	معسول کنندگان نے-/7,575,118,625 (پاکستانی روپے سات ارب، پانچ سوچھتر ملین، ایک سواٹھارہ ہزار، چیسوچیس صرف)مالیت کو
مين ۋسكلو ژر م	بینک گارٹن کا انظام کیاہے جواشینڈرڈ چارٹرد بینک (پاکستان) لمیٹڈی طرف ہے آفرے میٹر کے حق میں جاری کی جائے گ
ٹارگٹ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی طرف سے پایکٹش کی قبولیت کا تفصیلی طریقہ	1. پیک آفرقول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شیئر ہولڈرز قبولیت کالیٹر (جوآفر لیٹر کے کے ساتھ مسلک ہے) مناسب طریقے سے ممل
	- (the) it (t = 00 m) (000 m = 00 f = 0 m =

اور د سخفاشدہ مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ (جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے) 20 جون 2024 کوشام 5:00 بجے تک آفر کے ملیخر کواس کے	
رجشر ڈی یہ یعنی دوسری منزل، عارف حبیب مینفر، 23 ماہم ٹی خان روڈ پر بھیج دیں۔اس بات کوئٹینی بنا کیں کہ تبویت کے لیئر کے ساتھ شیئرز کی	
تغداد سبيت تماممطلو بيمعلومات فراجم كردى ممثي جيں _	
قبولیت کالیٹراورمطلوبہ دستاویزات مقررہ وقت کے اندر فراہم کرنے پرآ فرکامینجر دستاویزات کی وصولی کا تضدیق نامہ جاری کرے گا۔	.2
آ فر کے میٹر کو بندش کی تاریخ تک مناسب طریقے کے ممل کیا ہوا اور دستھا شدہ قبولیت کے کیشرمع مطلوبدوستاویزات وصولی پلک آ فرقبول	3

سکی 2016 کے بعد ہے، جناب محد فرخ اور محتر مہ فہیدہ امین دونوں نے ٹارگ کمپنی کے شیئر ز، وقتا فو قتا، او پن مارکیٹ، ندا کراتی وُ بل مارکیٹ کے

پلک آفر کے اعلان عام کی تاریخ سے 180 ون پہلے کے عرصہ میں سکیورٹیز ایکھینج پر ٹارگ سکینی کی weighted اوسط شیئر

ارادے کے اعلان عام کی تاریخ خرید وفروخت کے 28 دن قبل کے دوران سیکیو رشیز ایکیچینچ پر ٹارگٹ کمپنی کی weighted اوسطاشیئر برائس اورصرف وہی دن ثار کیے جا ئیں گے جن میں ٹارگٹ تمپنی کے شیئرز کی خرید وفروفت ہوئی: 23.09 پاکستانی رویے/شیئر

او پر کی بنیاد پر عوامی پیشکش 27.34 یا کستانی روپے اشیئر پر کی جار ہی ہے،او پر میں سب سے زیادہ۔

قبولیت کے کمل شدہ فارم جمع کرانے کے بعد پیلک آخر میں فروخت کرنے والے شیئر ہولڈرز کی طرف سے منسوخ نہیں کیے جاسکتے۔ تبوایت کے فارم کی نقول عارف حبیب لمیٹلہ کے دفاتر (پند ذیل میں فراہم کیا گیا ہے) یا ویب سائيك://https://www.arifhabibltd.com/پر بھى دستياب ہيں۔

قبولیت کے لیے پلک آفرسات روز تک 14 جون 2024 کو PST 0900 ہے شروع ہوکر 20 جون 2024 کو 1700 بج تک ("بندش کی تاریخ اس کھی رہے گی۔ بند ہونے کی تاریخ پراوقات کار کے بعد وعصول ہونے والی قبولیتیں قابل غور نمیں ہوں گی اور پیشکش کی مدت میں

قبولیت کے لیٹر کے ساتھ مندرجہ ذیل دستاویزات کا ہونا ضروری ہے: افرادی ورخواست وبندگان مے لیے: کمپیورائز و توی شاختی کار و کی تصدیق شده کانی، اصل شیئر سرتظیش ، اور مناسب طریقے ے ایکز مکیوٹ کی ہوئی ٹرانسفرڈیڈرمع شیئرز کواسیات کرنے کے لیے مناسب طریقے کے کمل اور وحقط شدہ اجازت نامد (صرف فزیکل شیئرز کے لیے) اوری ڈی می راسفر ڈسلپ جو چی ڈی می انویسرا کاؤنٹ سروسز کودی گئی صرف ی ڈی می شیئرز کے لیے)

كار يوريث ورخواست ومندگان كے ليے: ميموريندم ايند آرفيكر آف ايسوى ايش كى تقدديق شده كالى، مُوفيكيث آف الكار يوريش كى تقدديق شده

کا بی (اور پلک کمپنیوں کے لیے، کاروبارشروع کرنے کا شوقیٹ) د تخط کنندگان کے کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈز کی تصدیق شدہ کا پیال، بورڈ قر ارداد کی تقعد بین شده کایی جس میں افراد کوشیئر زفروخت کرنے کی اجازت دی گئی ہومج ایسے مجاز افراد کت دستخطانمونہ،اصل شیئر شوقیک اور مناسب طریقے ے ایکزیکیوٹ کی ہوئی ٹرانسفرڈیڈزمع شیئر طوفکیٹ(s) کو اسلاف کرنے کے لیے مناسب طریقے سے ممل اور دستخط شدہ اجازت نامد (صرف فزیکل شیئرز کے لیے) ہی ڈی می ٹرانسفرسلیس کی کالی جوی ڈی می انولیٹرا کاؤنٹ سرومز کوجع کرائی گئی تھی (صرف می ڈی می شیئرز کے لیے) مطلوبہ دستاویزات کے بغیرشیئر ہولڈر(s) کی طرف کے چیش کردہ قبولیت کا کوئی بھی لیٹرنامکمل اور غیر کارآ یہ ہونے کی بنایرا فر کے غیر کی طرف سے

روف کنده شیر بولڈرز کی طرف سے پیش کرده شیئرز کی صول کنندگان کی جانب تے بولیت اورآ فریرائس کی ادائیگی مندرجہ ذیل شرائط سے مشروط ہے تميشن يأسي دوسري مجاز اقفار في كويبلك آفر كي سي بھي دفعه بركو في اعتراض ند ہو؟ شیئرز کی ادائیگی فارن ایجینچ ریگولیشنز ایک،1947 اوراسٹیٹ بیٹک آف یا کستان کے فارن ایجینچ مینوکل کے کسیکشن کے ہ

مطلوبه ومثاویزات کے ساتھ مناسب طور پر کمل اور دستخطا شدہ قبولیت کا لیٹر بندش کی تاریخ پریاس سے پہلے آفر کے فیجر تک پانچ

پیش کردہ شیئرز ٹارگٹ ممپنی کی طرف سے منظور شدہ ہوں ؛ اور

حصول کنندگان ایک کی دفعات کے مطابق پلک آفروایس نہ لیں۔ مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ مجھ طریقے ہے پُر کیا ہوا تھولیت کا فارم مطنے پرآ فرکامینجر فروخت کنندہ شیئر ہولڈرز کوان شیئر زکی ادائیگی کے طور پرشیئر ہولڈرز ك وقت مين مينك ورافش اي آرورز كرساته قبوليت كي مت بند بون كردن (10) روزك الدرتخ يرى طور ير قبوليت كي اطلاع و كالم حصول کنندگان کی طرف سے فروخت کنندہ کی بھی شیئر ،ولڈر سے خرید کعدہ شیئر زیر کی بھی وجہ یاسب سے کوئی مارک اپ،سرچارج یا دوسری اضافی رقم قابل



ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ2009ء کی یا کستانی فاتح ليم آج امريكه مين نمائشي هي كھلے گ لا ہور(سپورٹس رپورٹر) 2009ء کی فاتح ٹیم

7 2ا پریل کو ہیوسٹن میں مقامی فرنیچائز نائٹ ائیڈرز یونا یکٹڈ سے نمایش میچ کھیلے گی۔ٹی ٹونٹی رلڈکپ 2009 کی فاتح ٹیم اس وقت کے کپتان یونس خان کے ہمراہ ان دنوں امریکہ کے مختلف ریاستوں کے ٹور پر ہے جہاں ٹیم کے 7نامور کھلاڑی ٹرافی کے ہمراہ مختلف اینٹس میں شرکت کررہے ہیں۔ کپتان یونس خان کے ہمراہ شاہد آ فریدی،مصباح الحق،عبدالرزاق، کامران المل، عمر كل اورفوا د عالم شامل بين جبكيه و بان موجود كركمرُ ز عثان شنواری، جان شارخان مجرمحسن اورنعمان انور

بچز میں بہت غلطہاں کیں ہوف ورلڈ کپ افتخار کیساتھ چوتھا تھے فنش کرنا چاہئے تھا میریز برابر کرنے کی کوشش کریئگے جغمز زمان

چیف ایگزیکٹونیوزی لینڈ کرکٹ کا دورہ سیف سٹیز اتھارٹی' سکیورٹی انتظامات پراظہباراطمینان'ورلڈ کلاس سٹم پرخوشگوار جیرت

لا ہور (سپورٹس رپورٹر) یا کتان اور نیوزی زیکری فوکس اورٹم روہنسن شامل ہیں ، یا کتان ٹیم 🛮 تھا۔عثان کو بتایا ہے اپنا نیچرل گیم کھیلے۔ یا نچوال

لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیاں پانچ ٹی کوسیریز برابر کرنے کیلئے آخری تی جیتنا لازی می جیت کرسیریز برابر کرنے کی کوشش فرینگے 20انزمیشل میچوں پرمشمل سیریز کا پانچوال اور موقالے وی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان ہے ۔نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایکزیکٹو آفیسر

آخری میچی آج قذافی سٹیڈیم لامور میں کھیلا ۔فاسٹ باؤگر زمان خان کی جگہ شاہین شاہ سکاٹ وینینک نے سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا

قونصل جنرل ہرمن ہارڈینا تااحمہ، فیڈریشن کےصدر آ صف عظیم کا خطا_ت

کرا چی (اسپورٹس ریورٹر) سافٹ بال فیڈریشن ۔ اسپورٹسمین ایک دوسر سے کا احترام ، دوئتی اور پیجہتی آف پاکستان کیجانب سے فرسٹ ورلڈ ہیں بال 🛚 کے ذریعے دنیا کوامیداوراعتاد کا پیغام دیتے ہیں

سافٹ بال ڈے کے سلسلے میں 15 روزہ تقریبات ۔ صرف میڈل جیتنا ہی تھیل نہیں ہے بلکہ تھیاوں کے

كا آغاز ہو گیاا فتتاحی تقریب کراچی میں ملائشیا کے فریعے معاشر بےخصوصا سوسائٹی اور كمیونٹی كو بکجاہ

توضلخانے میں منعقد ہو گی جس میں ملائیشین توضل رکھنا اصل بات ہے۔ آصف عظیم نے کہا کہیں بال

جزل ہرمن ہارڈینا تا احمد وائس تونصل نور اورسافٹ بال کی انٹرنیشل فیڈریشنز کے انظمام کے

آ ذُواسولِيكُ ، سنف بال فيڈريشن آف يا ڪتان دس سال عمل ہونے پر ڈبليو بي ايس ي ڪيجانب ہے

صدورتہینہ آصف، ڈاکٹر حنا جشید، کوآ رڈینیٹر عاشی ہے چیئر پرین یاسمین حیدر کا کہنا تھا کہ سافٹ بال

ذیثان، سندھ سافٹ بال ایسوی ایش کے جزل کا کھیل پاکستان کے نوجوان طبقے خصوصا خواتین

سیریٹری محمہ ذیثان مرچنٹ سمیت دیگر شخصیات میں تیزی سے مقبولیت کے منازل طے کررہا ہے۔

نے شرکت کی۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ۔ بعد ازاں ملاَیشین قونصل جزل ہرمن ہارڈینا تا اَئشین قونصل جنر ل ہرمن ہارڈینا تااحمہ کا کہناتھا کہ ۔ احمہ نے آ صف عظیم کے ہمراہ کیک کا ٹا۔

فٹ بال فیڈریشن آف یا کستان کیجانب ہےفرسٹ ورلڈ بیس بال سافٹ بال ڈے کی افتتاحی تقریب

میں ملائیشین قونصل جزک ہرمن ہارڈینا تااحمد کوفیڈ ریشن کےصدر آ صف عظیم سویڈیئر و بےرہے ہیں ۔

عوامي اطلاع

بابت حبیب شوگر ملزلمیشڈ (دی کمپنی) کی جانب سے

شيئرزى واپس خريدارى كيلئ مدت خريدى بندش

[لط كينيز (شيئرزك والسخريداري)ريكوليشز ،2019 ك

ریکولیشنز (g)10 کےمطابق (دی ریکولیشنز)]

بذريعه بذا كميني كى جانب سے شيئرزكى واپس خريدارى سے متعلق مدت

خرید کی بندش کا اعلان کیا جارہا ہے جیسا کہ حبیب شوگر ملز کمیٹٹہ

(دی مینی) کے ممبران کی جانب سے سالانہ اجلاس عام منعقدہ

۲۴ جنوری۲۰۲۴ء میں منظوری دی گئی تھی اوراس کی بابت یا قاعدہ عوامی اعلان اخبار بلذاميس ٢٦ جنوري٢٠٠ ء كوشائع كرديا كيا تفاخر بداري كي مدت کے دوران کمپنی نے مجموعی طور پر کمپنی کے ***، ** ، ۱۵ (پندرہ

ملین)عمومی شیئرز کی خریداری/ واپس خریداری (خریدے گئے شیئرز)

مکمل کی جو ۲۵ ایریل ۲۰۲۴ء کو ممپنی کے جاری کردہ اور اداشدہ

شير كيپل كوا فيصدى نمائندگى كرتے ہيں۔خريدے جانے والے

شیئرز نافذالعمل قوانین اور ممبران کی اجازت کے مطابق منسوخ

لردیئے جائیں گے۔اس کے مطابق ریگولیشنز کے ریگولیشن ک(۲) کےمطابق مدے خریداری جمعرات ۲۵ اپریل۲۰۲۴ء کواختیام شدہ/مکمل

ا دوء و من منت بول بيستر ك سير . كے صدر آصف عظیم، چيئر پرس ياسمين حيدر، نائب 10 مئى كودرلذ بيس بال ساف بال اِن احتمار با اِنظار احمد، اور عماد وسيم كوتر جي دى جبكه ابرار احمد اور

جائےگا۔ بیخ شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا ۔ آفریدی کوشامل کیا جاسکتا ہے۔ قومی کر کٹرفخر زمان ہے۔ ایم ڈی احسن اینس، چیف ایڈمن شعیب پانچ میچوں کی سیریز کے چارٹی ٹونٹی میچز کھیلے نے کہا ہے کہ اہم کھلاڑی نہیں کھیلتے تو فرق پڑتا سمحمود، آپریشن کمانڈرشیق احمد نے سکاٹ وینٹیک جنوبي افريقه ميں سخت ٹريننگ ہا چکے ہیں مہمان نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پاکستان ہے، نہم نے بہت غلطیاں کیں، سارٹ احصانبیں کو بریفنگ دی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے وفد کو مدف پیرس اولمپکس ہیں: ارشدندیم یخانے2-1 کی برتری حاصل ہے۔ پاکشانی ٹیم تھا۔ ہارا ہدف ورلڈ کپ ہے اس کیلئے روٹیشن سیئر پورٹ، ہوٹل، سٹیڈیم روٹس کی سکیورٹی اور بابراعظم کی زیر قیادت میدان میں اتر تکی ،سکواڈ ایلیسی اپنائی ہے، ورلڈ کپ بھی ضروری ہے اور کمبی فورس کی تعیناتی پر بریفنگ دی گئی۔جدید میں شامل دیگر کھلاڑیوں میں ابراراحمہ، اعظم خان سنجیش بنا بھی ضروری ہے۔ بچھے پنجنٹ نے بتادیا آرمیفیشِ المبلی میں ً لا بهور(سپورٹس رپورٹر)ارمپیین ارشد ندیم جنوبی افریقہ میں سخت ٹریننگ کے مرحلے میں داخل ، فخرز مان ، افتخارا حمد ، عماد وسیم ، محمد عباس آ فریدی ، سخلا کمه میب بهلیا تئین میجز نهیں کھیلوں گا ، مجھے اور سکیورٹی اداروں کے تعاون بیے متعلق بتایا گیا۔ ہوگئے۔ارشدندیم نے پہلے جمٹریننگ کی اور پھرتھر وکرنا شروع کیااوراب وہ بھر پورانداز سے ہرطرح کی ٹریننگ کررہے ہیں۔ میں کوچ ٹرسیوں کیپنبریک کی نگرانی میں لینڈٹیم کو مائنگل بریسویل لیڈ کریں گے جبکہ دیگر سی، ڈی ٹیم بھی گف ٹائم دیتی ہیں۔ عثان خان مانٹرنگ دیکھ کرمتاثر ہوئے اور کہا کٹیم کا بہترین 🕯 ٹریننگ کررہا ہوں اور نے طریقے اور کلنکٹیس سیھرمہا کھلاڑیوں میں ٹام بلنڈِل ،ٹم سفرٹ ،فن ایلن ، اچھا کھلاڑی ہے وہ پر فارم کر کے آیا ہے ، کوچز استقبال کیا گیاا ورعمہ ماحول فراہم کیا گیا۔ نیوزی مہوب ٹرینگ ہے میری صلاحیت اور سکلز پر مثبت اثر مارک چینمین ، جوش کلار کسن ، ڈین فوکس کراف ، عثمان خان کو بلائن دینے ہیں، میں زیادہ نہیں بتا تا لینڈ اور پاکستان کر کٹ کا چیشن شیئر کرتے ہیں پڑے ا، جنوبی افریقہ میں بڑی محت کررہا، بول تا کہ اپنا کول میک کو فچی ، جیزیشم ، جیک فرق ، بین السر، کہ وہ ڈبل مائنٹر نہ ہوں۔ شروع میں بھی ڈبل ۔ آپ کا تسلم ورلڈ کلاس ہے اور اسے دیکھ کر انازک حاصل کر سکوں۔ میرا ہوف بیرس اوکہکس میں

کول میک کو پکی ، جیزفیشم ، جیکب ڈفی ، بین کسٹر ، کہ وہ ڈبل مائنڈینہ ہوں۔شروع میں بھی ڈبل ۔آپ کا منسٹم ورلڈ کلاس ہے اور اسے دیکھ تر ولیم اوروک، بین سیرز، ایش سودهی، ایڈ ملن، 🛾 مائنڈ ڈیوجا تاجس کی وجہ سے کارکردگی پراٹریز تا 🗝 خوشگوار حیرت ہوئی۔ احیما پرفارم کرنااور یا کستان کیلئے اعز از لا ناہے۔ نى 20 ورلىژىپ، وقاريۇس كاسىخ15 رىنى سكوا دْ كانكشاف بابراعظم مجمد رضوان ،عثان خان ،اعظم خان ،افتخارا حمد ، شاداب خان ،فخرز مان عمادوسيم شامل

صائم ایوب،ابراراحمد،اسامه میر،شامین آفریدی شیم شاه جمدعامزحارث رؤف بھی حصه لا ہور(سپورٹس رپورٹر) قومی ٹیم کےسابق کپتان صفوان ، عثان خان ، اعظم خان ، افتخار احمد ، وقار اینس نے ٹی20 ورلڈک کیلیئے اپنے 15 رکنی شاداب خان ، فخر زبان ، صائم ایوب، عماد وسیم، سكوادٌ كا انكشاف كرديا- 15 رُني سكوادُ مين نوجوان ابرار احمد، اسامه مير، شابين آفريدي، نيم شاه، صائم ایوب فخرزمان اورعثان خان کیساتھ بابراعظم کو محمد عامرا ورحارث روّف شامل ہیں۔

گرین شرٹس نے ننھے فینز کورلا دیا

لا ہور (سپورٹس رپورٹر) نیوزی لینڈ کیخلاف چوتھے نی 20 میچ میں شکست نے شائفین کو مایوس کردیا۔ شائفین نے فل سٹیڈیم میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے وقاریونس کے 15 رکی سکواڈ میں کپتان بابراغظم جھہ میڈیا پرتیزی سے وائر ل ہورہی ہیں۔

[قطر جونیئرسکواش ، پاکستان نے جاندی ک**ے 2** تمغے جیت کئے مبداللّٰدز مان ،احم^ی کی ناز نے بالتر تیبا نڈ ر15 ،انڈ ر11 میںسلورمیڈ ل حا**صل** کیا لاہور(سپورٹس رپورٹر) پاکستانی سکواش کھلاڑیوں سیمی فائنل ہار گئے فخر اور عزم کے ساتھ پاکستان کی نے دوحہ میں ہونے والی جونیر سکواٹ چیمپئن شپ میں نمائندگی کرتے ہوئے دونوں نوجوان کھلاڑیوں نے

ٹاپ آرڈر میں جگہ دی۔ سپن باؤلنگ اٹیک کیساتھ

آل راؤنڈر کے طور پروقاریونس نے شاداب خان،

اسامه میر کو بھی اپنے سکواڈ میں شامل کیا۔فاسٹ

باؤلنگ لائن اپ میں سابق لیجنڈری کرکٹر نے

شاہین آ فریدی انسیم شاہ ،محد عامر کے علاوہ حارث

چاندی کے دو تمغے اپنے نام کیے۔ دو پاکستانی نوجوان سچیمپئن شپ کے دوران کورٹ پر اپنی صلاحیتوں کا غبدالله زمان اوراحمة علی ناز نے تیاندی ٹے تمنے حاصل مظاہرہ کیا اور اپنی شاندار پرفارمنس کی وجہ ہے خوب کے کیونکہ وہ ایونٹ میں انڈر 15 اور انڈر 11 کے فائل میں جیوان حاصل کی۔ دونوں زمان بھائی کیجنڈری سابق میں ہار گئے۔ عمیراللند زمان کے چھوٹے بھائی ریان اسٹھائر کھاڑی تمرزمان کے بوتے ہیں جس کامطلب زمان نے ایونٹ کی انڈر 11 کمیلیگری میں حصر لیااور ہے کھیل میں ان کی خاندانی میراث ہے۔

عامرخان کا یا کستان میں باکسنگ کی دگر گوں حالت پراظهار مایوی بچے با کسنگ سکھنے کیلئے رابطہ کرتے ہیں کیکن حکومت اورا نرظا میہ کی دلچیپی نہیں: با کسر

لا ہور (سپورٹس رپورٹر) پاکستانی نژاد برطانوی باکسر میری بیہاں اکیڈی تھی،میری جم بالکل نئی اور بہت ہی عامرخان نے ملک میں باکسنگ کے حوالے سے غیر صاف تھی، مگروہ بھی بند کردی گئی۔ایک لاکھ ڈالر سے نجیدگی پرسوالات اٹھاتے ہوئے ملک میں باکسنگ کی زائدرقم خرچ کرکے قائم کیا گیا جم بھی تباہ ہو چکا ہے۔ دگر گوں حالت پر مانیوی کا اظہار کیا ہے۔انہوں نے کہا سبجے مجھے میس کرتے ہیں کہ ہمیں ٹریننگ کرنی ہے لیکن کہ نیچ باکسنگ سیکھنے کیلئے رابطہ کرتے ہیں کیکن سوال یہہے کہ یا کستان میں کیوں باکسنگ خہیں ہوتی؟ حکومت اور انتظامیہ کی عدم دلچینی کے باعث سخت سمیں پاکستان میں ہوں کیکن اور اب انگلینڈروانہ ہور ہا ماریس ہوں۔ میں یا کستان آ تا جاتا رہتا ہوں، پہلے ہوں کیونکہ میں بہت ماریس ہوں۔

يم آئيا عاوُن لايش ايندا عدى آرسينر شيب بال ورنامنك ا یم اسحاق علی اینڈ کوٹور نامنٹ کی فاتح' چارٹیموں نے تین میچوں میں حصہ لب

كراچى (اسپورٹس ربورٹر) گزشته روز 25 اپریل کرکٹ ٹیم (اے)نے 8وکوں سے بچی جیت لیا۔ دوسرا 2024 کوسیکنڈ ایم آئی آے فاؤنڈیشن اینڈ اے ڈی میچ ایم اسحاق علی اینڈ کوایڈ دوکیشس ہمقابلہ کراچی لائیر آڑسینٹرٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ایس کے بی سکرکٹ ٹیم (بی) کے درمیان کھیلا گیاجس میں ایم اسحاق زید گراؤند میں کیا گیاورایم اسحاق علی ایند کواید دوئیش علی ایند کواید دوئیش کی جانب ہے۔104 رز کا کارگ دیا گورنامٹ کی فتح قرار پائی ۔ بی میں چارٹیوں نے تین میں جمید کراچی لائیر کرکٹ میم (بی) 36 رز سے تی ہار میچوں میں حصیہ لیا جس میں ایم اسحاق علی ایندکو میں تیسر اور فائل تیج میں ایم اسحاق علی ایند کو ایڈووکیٹس،ایم آئی آے فاؤنڈیٹن، گراچی لائیر کرکٹ ایڈووکیٹس ہمقابلہ کراچی لائیر کرکٹ ٹیم (اے) کے فیم (اے)اورکراچی لائیرکرکٹ فیم (نی) شامل تھیں۔ درمیان کھیا گیا جس میں ایم اسحاق علی اینڈ کوایڈ ووکیٹس يبلاً ﷺ ايم آئي اے فاؤنديش بمقابليگرا چي لائير كركث في 100 رز بنائے جبكه كرا چي لائير كركث شیم (اے) کے درمیان کھیلا گیا جس میں ایم آئی اے مشیم (اے)76 رز ہی بنانے میں کامیاب ہوئی اور 24 م



Discover Business Opportunities with Trade Development Authority of Pakistan (TDAP)

حسب الحكم بورد

عمران امين ورياني

نمپنی سیریٹری

TRADE DELEGATION TO BELARUS

28th - 30th May, 2024

Security Deposit: 50,000 (Refundable)

Products in Focus:

Seafood (Frozen and processed), Fruits and vegetables, Rice and Sesame Seeds, Processed Food, Pink Salt & Natural Stone, Pharmaceuticals & Cosmetics Products Chemicals, Polymers and Plastics, Leather, Textiles and Apparel, Ceramics and Glass, Auto parts, Medical, Dental, Veterinary and Manicure Instruments, Cutlery, Sports

of participation at any stage.

Applicants may apply online at the following link: https://tdap.gov.pk/mis/


Last date for receiving applications: May 7th, 2024 Participation will be subject to the terms and conditions available on TDAP's web portal https://www.tdap.gov.pk/

Naseer Ahmad Bhatti

Assistant Manager - International Markets Development Division Phone: 0346-7903592, Email: naseer.bhatti@tdap.gov.pk

> **Trade Development Authority of Pakistan** MINISTRY OF COMMERCE - GOVERNMENT OF PAKISTAN DAP Head Office, 5th Floor, Block A, Finance & Trade Centre,





کراچی:

